

کووڈ-19 کے دوران فروغ و ترقی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے، سٹی نے کچھ نئے ڈیجیٹل ٹولز متعارف کروا دیے

برامپٹن، آن (24 اپریل 2020) – سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران رہائشیوں اور ملازمین کی صحت و سلامتی کی حفاظت کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کے آگے بڑھنے کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے اپنے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے محکمے میں نئے پرجدت طریقہ ہائے کار اور ٹولز متعارف کروا دیے ہیں۔

ڈیولپرز اب سٹی کی [ویب سائٹ](#) پر الیکٹرانیک طور پر تمام ترقیاتی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں، بشمول سب ڈیویژن کے منصوبے، ریزوننگ اور سائٹ پلانز۔ 20 مارچ کو اس نئے ٹول کے سامنے لائے جانے کے بعد، سٹی کو 25 نئی ترقیاتی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ عملہ فریقین کے ساتھ ویڈیو ٹیلی کانفرنسنگ سافٹ ویئر استعمال کر کے گھروں سے کام کرتے ہوئے تمام درخواستوں پر عمل درآمد کرنے کے قابل رہا ہے۔

20 اپریل سے، رہائشی عمارتوں کے پرمٹس کی درخواستیں بھی الیکٹرانیک طور پر جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ بلڈنگ ڈیویژن کا عملہ رہائشیوں والی عمارتوں کے معائنے (بشمول دوسری یونٹس) ورجوئل طریقے سے کر رہا ہے۔ بڑی انڈسٹریل، کمرشل اینڈ انسٹیٹیوشنل (ICI) درخواستیں صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے جمع ہونا جاری رہیں گی۔

عملے نے کئی ترقیاتی کاموں کے لیے منظوریوں جاری کی ہیں اور کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران درج ذیل قابل ذکر پراجیکٹس پر کام کرنا جاری ہیں، بشمول:

- تقریباً 22,000 مربع میٹر ملازمت کی جگہ اور 800 رہائشی یونٹس کی منظوری۔
- سٹی کے چیف بلڈنگ آفیشل نے میپل لاج فارمز کو ایک تعمیراتی پرمٹ پہنچایا، جو 250 نئی نوکریاں پیدا کرنے والا ایک پراجیکٹ ہے۔
- شاپرز ورلڈ کی تجدید نو (RioCan)، جو اس جگہ کو 5,000 سے زائد رہائشی یونٹس والی ایک نئی کثیر المقاصد شہری کمیونٹی میں بدلنے کی تجویز دیتا ہے۔

سٹی نے اس سال مارچ اور اپریل میں 2019 کے اسی عرصے کی نسبت 34 فیصد زیادہ پرمٹس جاری کیے۔ قابل ذکر پرمٹس میں شامل ہیں:

- میپل لاج فارمز – تعمیراتی مالیت \$2.5 ملین
- شیل، 6475 منے فیلڈ روڈ – تعمیراتی مالیت \$2.95 ملین
- 17 نائٹس برج روڈ – تعمیراتی مالیت \$1.2 ملین
- 1 نائٹس برج روڈ – تعمیراتی مالیت \$500,000

کووڈ-19 کے خلاف ردعمل میں کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کی سٹی کی کوششوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں یا @CityBrampton کو ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

اقتباسات

"ایک اچھی طرح چلائے جانے والے شہر کے طور پر، ہم اپنی کمیونٹی کی صحت و سلامتی کی حفاظت کرتے ہوئے برامپٹن میں کاروباروں کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ نئے پرجدت طریقہ کار اور ٹولز ہمیں دونوں کام کرنے کے قابل بناتے ہیں – یعنی اپنے شہر میں تعمیرات میں اضافے کے عمل کو جاری رکھنا اور نوکریاں پیدا کرنا اور کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران جسمانی فاصلہ بندی کو برقرار رکھنا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"جبکہ سٹی کی سہولت گاہیں بند ہیں، کونسل اور عملہ کاروباروں کو آگے بڑھانے کے لیے متبادل طریقوں سے خدمات فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ پلاننگ کے محکمے میں استعمال ہونے والی نئی ٹیکنالوجیاں برامپٹن کے کاروباروں کو مؤثر طریقے سے خدمات فراہم کریں گی، مقامی معیشت کی مدد کریں گی اور عملے اور رہائشیوں کو محفوظ رکھیں گی۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی

"صحت اور حفاظت پر توجہ کے ساتھ، ہم اس مشکل وقت میں اپنے شہر کی بڑھوتری پر مرکوز ہیں۔ خدمات کی فراہمی کے نئے طریقے تلاش کر کے، سٹی آف برامپٹن ڈیولپرز کے لیے ایک ترجیحی منزل کے طور پر اپنا مقام قائم رکھنا جاری رہے گا۔"

- پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی

"سٹی آف برامپٹن کا عملہ اس مشکل وقت کے دوران نئے اور محفوظ طریقوں سے پروگرام اور خدمات فراہم کرنے کے ہمارے اس عزم پر متفق و متحد ہے۔ پلاننگ کے محکمے میں متعارف کروائے جانے والے طریقہ کار اور ٹولز ہمیں اس ہنگامی صورتحال میں عملے اور عوام کی صحت و بہبود کی حفاظت کرتے ہوئے تعمیراتی کمیونٹی کو خدمات فراہم جاری رکھنے کے قابل بنائیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca